

THIONYL CHLORIDE	تحلیفیاں کلورائیڈ	ICSC: 1409
CAS # 7719-09-7 RTECS # XM5150000 UN # 1836 EC # 016-015-00-0 EINECS# 231-748-8 UN Hazard class: 8	دیگر نام: Sulfurous oxychloride Sulfurous dichloride Sulfinyl chloride Sulfur chloride oxide Thionyl dichloride فارمولہ: $\text{SOCl}_2$ سامانی وزن: 118.97	
ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قلب پانہ	بچاؤ	خطے کی قسم
آگ کے قرب و جوار میں پھیلنے کی صورت میں استعمال کریں۔ کاربن ڈائی آسائیڈ پاؤڈر استعمال کریں پانی بالکل استعمال نہ کریں	پانی کے ساتھ مت ملائیں	غیر آش گیر بادہ کئی عوامل آگ یا دھاکہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ ملنے پر سوچ شدیداً کرنے والے یا زبردیلے بھارت (یا چین) خارج ہوتے ہیں۔ آگ:
آگ لگنے کی صورت میں ڈرمول وغیرہ کو پانی کا ہمراز کا کر کے خندما رکھیں مگر پانی کو مادے میں ملنے سے بچائیں		دھاکہ:
ہر عالت میں ذاکر سے رجوع کریں!	پھوار کے بننے سے بچائیں ہونے سے سختی سے پڑھیز کریں	جم میں داغمہ:
تازہ ہوا میں لے جائیں، آدم دلائیں ٹیکٹاک لائیں طبی تجدیش کا انتظام کریں	ہوا کی آمدورفت، لوکل ایگزاست یا آلات تنفس کا انتظام کریں	سانس کے راستے: گلکی خرابی کھانسی۔ جلن سانس کی خرابی سانس لینے میں مشکل علامات دیر بعد ظاہر ہو سکتی ہیں (نوٹ دیکھیں)
خراپ شدہ پھرے اتار دیں جلد پر وافر مقدار میں پانی بہائیں یا شاور کے بیچے لے جائیں طبی تجدیش کا بندوبست کریں	خافتی دستاںے استعمال کریں خافتی لباس استعمال کریں	جلد کے راستے: جلن کا احساس سرفی جلد پر ملنے کے شدید زخم
پہلے کئی منٹ تک پانی سے اچھی طرح دھونیں پھر ذاکر کے پاس لے جائیں۔	پھر کے کی شدید استعمال کریں یا آنکھوں کی خافتی کے ساتھ آلات تنفس استعمال کریں	آنکھوں میں پڑنا: درد سرخ شدید گھمے زخم۔
پانی سے منہ اندر سے صاف کریں۔ سے مت دلوائیں طبی تجدیش کا بندوبست کریں	کام کے دوران خود دونوں اور سگریٹ نوشی مت کریں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونیں	لگنے کی صورت میں: جلن کا احساس۔ پیٹ میں درد۔ صدمہ یا شدید نفاثت
پیکٹ کرنا اور لیلیں لانا:		بکھرنے کی صورت میں اقدامات:
نہ ٹوٹنے والی پیکنگ استعمال کریں، ٹوٹنے والی پیکنگ کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھیں بند کریں خدا کی یا جانوروں کی فیڈ کے ساتھ باربرداری نہ کریں۔		ہوا کی آمدورفت کا انتظام کریں رستے ہوئے اور بستے ہوئے مانع کو مکمل حد تک (ڈیکس یا برتوں میں اکھتا کریں بقیہ مانع کو رسٹ وغیرہ میں جذب کر کے محفوظ بلج پر بچائیں۔ (غیر معمولی ذات حفاظہ، مکمل خافتی لباس بیشمول خود کا رآلہ تنفس کی ضرورت)۔
ذخیرہ کرنا:		ہنگامی اقدامات:
خراش کے ساتھ ہوا کی آمدورفت کا انتظام کریں خدا کی اور فیڈ وغیرہ سے علیحدہ رکھیں نیکت رکھیں اس کو اچھی طرح بذر کھینچیں یا نیکتی نظرات میں دیکھیں	Transport Emergency Card: TEC (R)-[61GT6-I]	
اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں		

THIONYL CHLORIDE	تھیانیل کلورائید	ICSC: 1409
اہم معلومات		
بسم میں داغنے کے راستے: یہ مادہ جنم میں سانس کے ذریعے اور لگنے پر بذب ہو سکتا ہے سانس کے راستے داغنے کے اثرات: 20 سمنی گریڈ پر ہوا میں اس کی مقدار احتیائی تیریزی سے خطرناک حد تک پہنچ سکتی ہے ختم مردمت کے لیے جنم میں داغنے کے اثرات: اٹک آؤ مادہ اسکھوں میں جلد پر سانس کی نالی میں شدید زخم کا اندازہ ہے۔ لگنے پر گلنے کا اندازہ۔ اس کے سانس کے ذریعے اندر جانے پر پھینپھڑوں میں پانی بھر سکتا ہے (نوٹ ڈیجھیں) یہ مادہ پھینپھڑوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے جس سے سوتھن اور رکاوٹ پیدا ہوتی ہے بدن پر اثر انداز ہونے پر موت واقع ہو سکتی ہے۔ اثرات بعد میں ظاہر ہو سکتے میں بھی بنداشت میں رکھیں	طبی حالات: ہر رنگ سے لیکر زرد دھوان دار ایج چسبی ہوئی بو کے ساتھ طبی خطرات: بھارت ہوا سے بھاری میں کیمیائی خطرات: یہ مادہ گرم کرنے پر تکمیل ہو جاتا ہے یہ پانی کے ساتھ شدت سے عمل کرتا ہے اور زہریلے اور گلا دینے والے بھارت کے ساتھ شدت کے ساتھ عمل کرتا ہے یہ پانی آش گیر اشیاء ایز اس اس دھاتوں امویاں اگ اور دھا کے عمل کرتا ہے ہوا میں مقررہ حدود: روی معینہ مقداریں (TLV: 1 ppm) (ACGIH 2001)	طبی خواص
log pow کے طور پر اکٹانول مبتنا پانی پارٹیشن کو فیشٹ: 4.02	نقٹ جوئی: [ سنی گریڈ 132-133 ] کثافت اضافی (بال مقابل پانی = 1): 1.14 پانی میں عل پنیری (گرام فی 100 مل لتر): بالکل نہیں 20 سمنی گریڈ پر بھارتی پریش: [ 0.02 ] Kpa	ماخولیاتی اعداد و شمار
(Notes)		
کام کے دوران ہوا میں اس کی مقررہ حدود دن کے کسی حصے میں بھی عبور نہیں ہونی چاہیے پھینپھڑوں میں پانی بھرنے کے آثار کی تکھنے بعد ظاہر ہوتے میں لہذا مکمل آرام اور طبی بنداشت ضروری ہے	مزید معلومات:	
<b>LEGAL NOTICE</b>	Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information. © IPCS, CEC 1999	
IPCS International Programme on Chemical Safety	    	Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the Commission of the European Communities C IPCS, CEC 1999